

سکول سے قبل سکھانا

بچے بولنا سیکھتا ہے تو وہ کبھی کبھار مکھ بھی سیکھتا ہے۔ (چھپکانا یا اپنے آپ کو دھرانا)۔ یہ ان کے ساتھ اکثر ہو سکتا ہے جب وہ تھکے ہوں، جوش یاد بانو میں ہوں۔

عمل کریں،

1. یاد رکھیں کہ اکثر سکھانا عام طور پر زبان کی ترقی کا حصہ ہیں۔
2. پرسکون رہیں اور اپنے بچے کو جتنے وقت کی ضرورت ہو دیں۔ اپنے بچے کو دیکھیں اسے توجہ دیں اور بچہ جو کچھ کہ رہا ہے اویں دلچسپی ظاہر کریں کہ وہ کس طرح کہ رہا ہے۔ روزانہ اپنے بچے کے ساتھ کھیلنے اور باتیں کرنے میں وقت گزاریں۔
3. اپنے بچے کے ساتھ واضح اور آہستگی سے بات کریں اور اسے بتائیں کہ کیا کرنا ہے نہ کہ اسے کہیں کہ آہستگی اختیار کرے اپنے بچے کی بات کا فطری رد عمل ظاہر کر کے اسے بتائیں کہ بات کرنے میں روانی نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔

عمل نہ کریں۔

1. بچے کو زبانی ہکلاہٹ کا احساس نہ دلائیں۔
2. منفی رد عمل ظاہر نہ کریں (مثلاً آہستہ ہو جاؤ، دوبارہ کہو یا اپنی گردن ہلاؤ)۔
3. بہت زیادہ سوالات نہ کریں بلکہ بچے سے باتیں کریں۔
4. بچہ بات کرنے کے دوران انک جانے تو الفاظ مکمل نہ کریں بلکہ اسے اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ آپ کا بچہ یہ نہ سیکھ سکے گا کہ وہ خود بول سکتا ہے۔
5. بچے یا خاندان کا شیڈول زیادہ مصروف نہ رکھیں۔ یہ بچے پر وقت کا دباؤ بڑھا سکتا ہے۔